



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies (Common with)**  
**PAPER: I-N & 1-N15 (Al Fiqah and Illum ul Fiqah)**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

سوال: ۱ (معروضی) درج اجزاء کے اس طرح جواب دیں جزو الف اور جزو ب سے تین تین اور جزو ج سے چار سوالات کے جواب دیں

۲۰

**الف:**

- ۱) قرآن کے فقہی اصول تدریج کی مثال میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کریں
- ۲) فقہ کی تعریف کیجئے
- ۳) عہدتا بعین کے دو ممتاز فقہاء کے اسماء گرامی منع سالی وفات تحریر کیجئے
- ۴) امام ابوحنیفہ کے دو فقہاء کی نسبت مأخذ لکھیجئے
- ۵) امام شافعی کے کسی فقیہ استاد کا اسم گرامی لکھیجئے

**ب:**

- ۱) الوجيز کے مصنف کا نام لکھیجئے
- ۲) قیاس کی تعریف کیجئے
- ۳) خفی کی تعریف کیجئے
- ۴) تتشابہ کی دو نیچتیں بتائیے
- ۵) سنت کی صحیت پر ایک آیت کریمہ پیش کیجئے

**ج:**

- ۱) الاطعہ و اشربہ سے کیا مراد ہے
- ۲) خشکی کے حرام جانوروں میں کوئی سے تین کے نام لکھیجئے
- ۳) جلالہ سے کیا مراد ہے، فقہاء کی اس کے بارہ میں کیا رائے ہے
- ۴) اعضا کی منتقلی کے بارہ دو یوجدیو کے فقہاء کی کیا رائے ہے
- ۵) پیاس کی وجہ سے سخت بجور (مضطر) کے لیے شراب پینے کے بارہ میں فقہاء کی کیا رائے ہے
- ۶) دم منروح سے کیا مراد ہے، اس کا کیا حکم ہے
- ۷) اضطرار کی صورت میں اگر خنزیر اور مردار میسر ہو تو مالکیہ کے نزدیک کھانے میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی
- ۸) نظری حق میں شخص اعتباری سے کیا مراد ہے

**حدائق انشائیہ (تاریخ الفقه)**

سوال: ۲: عہدتا بعین میں فقہ اسلامی کے امتیازات، مأخذ اور اس دور کے ممتاز فقہاء کے اسماء گرامی تحریر کیجئے

یا

عہد تدوین میں فقہ مخفی و فقہ مالکی کے امتیازات، مأخذ اور خصوصیات تحریر کیجئے

سوال: ۳: درج ذیل میں سے ایک پرنوت لکھیجئے:

الف: دو یوجدیو کے فقہاء میں سے مصطفی زرقاء کی خدمات  
 ب: فقہ اسلامی اکیڈمی اٹھیا

۱۰

• حصہ دوام انشائیہ (اصول الفقه)

سوال: ۲۳ عبد الوہاب خلاف کی اصول الفقه اور الوجیز کی روشنی میں سنت یا الجماع کی تعریف کریں اور اسکی اہمیت و جیت پر مل بحث کریں ۱۰

سوال: ۵ درج ذیل میں سے کسی ایک پر نوٹ تحریر کیجئے

الف: خاص و عام (تعریف، اقسام، مثالیں)      ب: متعلقات الصوص میں سے عبارۃ النص اور اشارۃ النص (تعریف و مثالیں) ۱۰

حصہ سوم انشائیہ (متن الفقه)

سوال: ۶ درج ذیل فقہی عبارت کا بامحاورہ اردو ترجمہ کیجئے، اور فہری اختلاف کی وضاحت کیجئے : ۱۵

واباح الشافعیہ والحنابلہ اکل الضب و الپبع . و عند الشافعیہ: والشعلب و حرمہ الحنابلہ . و حرم الحنفیہ اکل ذالک کلمہ . و ام المالکیہ فقد ابا حوامع الكراہة اکل کل السباع کما تقدم . ویجوز بالاجماع اکل الانعام (الابل وانہر و الغنم) لاباحتہا بنص القرآن الکریم .

یا

وعبارۃ الشافعیہ : یکرہ اکل الجلالۃ : وہی التی اکثر اکلہا العذرۃ (الغائط) من ناقۃ او شاہ و بقرۃ او دیک او دجاجۃ لحدیث ابن عمر المتقدم : ولا یحرم اکلہا لانه ليس فيها اکثر من تغیر لحمها و هذل لا یوجب التحریم فان اطعم الجلالۃ طعاما مظہر الم یکرہ

سوال: ۷ درج ذیل فقہی عبارت کا بامحاورہ اردو ترجمہ کیجئے، اور طلاق کی مختلف اقسام اور ان میں فہماء کے اختلاف کو بیان کیجئے : ۱۵

واما الطلاق البائن ، فانهم اتفقوا على ان البيونة انما توجد الطلاق من قبل عدم الدخول ، ومن قبل عدد التطليقات ، ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق او فسخ ؟ على مasisiatی بعد ، واتفقوا على ان العدد الذي یوجب البيونة في طلاق الحر ثلاثة تطليقات اذا وقعت مفترقات

یا

فانه اختلف فيه مالک و ابو حنیفة و من تبعهما ، فقال مالک من شرطها ان لا یتبعها في العدة طلاقا آخر . وقال ابو حنیفة : ان طلقها عند كل طهر طلاقة واحدة عند كل طهر طلاقة واحدة كان مطلقا للسنة . وسبب هذ الاختلاف هل من شرط هذ الطلاق ان یكون في حال الزوجية بعد رجعة ام ليس من شرطه

سوال: ۸ درج ذیل میں سے ایک پر نوٹ لکھیے : ۱۰

ب: خلع، معنی و مفہوم، متعددات

الف: حق، تعریف، اقسام و حکم

# UNIVERSITY OF THE PUNJAB



**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies (New Course)**  
**PAPER: III (Islam & Modern Economic Thought & Movements)**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

کل پانچ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ پہلا سوال لازمی ہے۔ تمام سوالوں کے نمبر رابرہیں۔  
 ۱۔ مندرجہ ذیل میں سے دسے جواب دیجیے۔

الف) آیت مکمل کریں: وَمِنْ اعْرَضْ مِنْ ذَكْرِي..... اعمی۔

ب) شرکت وجوہ اور شرکت صنائع سے کیا مراد ہے؟

ج) اقتصاد سے متعلق دو احادیث کا عربی متن تحریر کیجیے۔

د) جزوی اور کلی معاشیات میں فرق بیان کیجیے۔

ر) زمانہ جاہلیت میں رانگی دراثت کی تقسیم کے اصول بیان کیجیے۔

ز) عاریت کے اركان تحریر کیجیے۔

س) زکوٰۃ سے متعلق مصارف ثانیہ والی آیت تحریر کیجیے۔

ش) زمین کی اقسام خمی اور خالصہ کا فرق بتائیں۔

ص) قطعیہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو شریٰ ضابطے تحریر کیجیے۔

ض) دولت اور سرمایہ میں کیا فرق ہے۔ واضح کیجیے۔

ط) رباع الفضل اور رباع النسیہ کا فرق بتائیں۔

ظ) درج ذیل کتب کے مصنفوں کے نام لکھیے۔

(ا) علم الاقتصاد (iv) سولزم اور معاشر ترقی (iii) کتاب الفقہ على المذاهب الاربعه

۱۔ بطور علم، معاشیات کے اسلامی اور یکوئی تصورات کا تقابلی جائزہ بھیجیے۔

۲۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں معاشر نظاموں کا نتیجہ ظلم و استعمال ہے۔ بحث کریں۔

۳۔ شرکت سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام اور حدود و شرائط پر جامع نوت لکھیے۔

۴۔ ”اگر تم (سودی لیبن دین سے) بزنیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ“ اس بیان کی روشنی میں حرمت روپ پر ایک سیر جامع نت لکھیے۔

۵۔ تعمیر کے جواز و عدم جواز کے دلائل کا موازنہ کیجیے اور شرعی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے دور جدید میں مختلف سورتوں کی وضاحت کیجیے۔

۶۔ کفالت عامہ کے سلسلہ میں اسلامی تعلیمات اور انہا عمل کی وضاحت کیجیے۔

۷۔ اسلام میں ٹیکسوں کا تصور کیا ہے؟ مغربی حیثیت دنوں کے وضع کردہ اصولوں اور اسلامی نیکس پالیسی کے اصولوں کا تقابلی جائزہ بھیجیے۔

۸۔ درج ذیل عنوانات میں سے دو پر جامع نوت لکھیں۔

(i) اسلامی تصور طالب و حرام کی معیشت میں کار فرمانی۔ (ii) امام ابو عبید القاسم

(iii) WTO کے اثرات اور مقابلے کے لیے تجویز (iv) ما تھس کے نظریہ آبادی کا تقدیمی جائزہ



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies (New Course)**  
**PAPER: IV(ii) , III-2 (Islam & Philosophy)**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

(نوث) کل پانچ سوال حل کریں۔ پہلا سوال لازمی ہے تمام سوالات کے نمبر مساوی بین۔

1. الف) درج ذیل اصطلاحات میں سے صرف پانچ کی وضاحت کریں۔

توحید      استدال۔ عالم امثال۔ عرض۔ بیانی۔ وحدۃ الشبوب۔ استدام محض۔

ب) درج ذیل میں سے پانچ سوالات کے مختصر جوابات دیجئے۔

(i) وحی کی اہمیت پر کونی ایک آیت تحریر کیجئے۔

(ii) کس فلسفی نے عدد کو کائنات کی اصل قرار دیا؟

(iii) .. ادمی ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ کس کا قول ہے؟

(iv) علم الکلام کی تعریف کیجئے۔

(v) ساننس کا موضوع کیا ہے؟

(vi) علامہ اقبال کے نظریہ فکر کی بنیاد کیا ہے؟

(vii) نظریہ صدور کیا ہے؟

-2. فلسفہ سے کیا مراد ہے؟ فلسفہ کے بنیادی سوالات اور ارتقاء کا جائزہ لیجئے۔

-3. ارسٹو کے فلسفیا نہ افکار کا خلاصہ پیش کیجئے۔

-4. الکنڈی کو پہلا مسلم فلسفی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے افکار کی روشنی میں تحریر کیجئے۔

-5. ابن رشد کے فلسفیا نہ افکار پر بحث کیجئے۔

-6. علامہ اقبال کے فلسفہ تو حید پر مبسوط نوٹ تحریر کیجئے۔

-7. فلسفہ اور سائنس کا تقابلی جائزہ پیش کیجئے۔

-8. فلسفہ اور منطق کا تقابلی جائزہ پیش کیجئے۔

-9. درج ذیل میں سے کسی دو پر نوٹ لکھیں۔

ج. افلاطون کی مثالی ریاست

الف. معتزلہ      ب. آخرت



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies**  
**PAPER: V (ii) [Islami Ikhlaq o Tasawwuf]**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

**نوٹ: پہلا سوال لازمی ہے، اس کے علاوہ حصہ اول اور حصہ دوم سے دو دو سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:**

**سوال ۱: اخلاق کے لفظی معانی کیا ہیں؟ س**

**سوال ۲: فضائل اور رذائل سے کیا مراد ہے؟**

**سوال ۳: حدیث مذمت میں ایک حدیث درج کریں**

**سوال ۴: وحی کی تین اقسام تحریر کریں**

**سوال ۵: خواطر سے کیا مراد ہے؟**

**سوال ۶: کشف الحجب کے مصنف کا نام لکھئے**

**سوال ۷: مکافہ سے کیا مراد ہے؟**

**سوال ۸: امام ابوالقاسم قشیری کے تین معاصرین کا نام تحریر کریں**

**سوال ۹: کتاب المریدین کس کی تصنیف ہے؟**

**سوال ۱۰: چونچی صدی بھری کے چار صوفیا کے نام لکھئے**

## حصہ دوم

۱۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی کے اخلاق پہلوؤں کو کیسے متأثر کرتا ہے وضاحت کریں۔

۲۔ اسلام کا تصور اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں۔

۳۔ ابلاغیات کے حوالے سے اخلاقی ضوابط کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

۴۔ انسانی شخصیت کی تربیت و اصلاح میں اسلامی عبادات کیا کردار ادا کرتی ہیں۔

## حصہ دوم

۵۔ کشف والہام سے کیا مراد ہے۔ کشف کی حقیقت و استنادی حیثیت کیا ہے۔

۶۔ مشہور سلسلہ ہائے تصوف میں دو کی تفصیل بیان کریں۔

۷۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے تصوف کی اصلاح میں کیا کردار ادا کیا وضاحت فرمائیں۔

۸۔ ترکیب نفس میں تصوف سے کیا رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies (Old & New Course, Old Course 2014)**  
**PAPER: IV (i), III-1 (Islam & Science)**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

**نوٹ: کل پانچ سوالات کے جوابات تحریر کریں، پہلا سوال لازمی ہے، تمام سوالات کے نمبر یکساں ہیں**

**(۱) درج ذیل سوالات میں سے دس (۱۰) سوالات کے جوابات تحریر کریں**

**(i) الْمَرْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَالْجَبَالَ اُوتَادًا      کی سائنسی تفسیر بیان کریں**

**(ii) سمندر میں تاریکی و رتاریکی کا سبب بیان کریں**

**(iii) معلم اول اور معلم ثانی کین سائنسدانوں کے لقب ہیں؟**

**(iv) ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے روایتی قرآنی آیت کا متن لکھیں**

**(v) علم طب کی ایک جامع تعریف تحریر کریں**

**(vi) جابر بن حیان کے ایجاد کردہ (۲) ویژیبات کے نام تحریر کریں**

**(vii) بوریجان البيرونی نے زمین کا قطر کیا معلوم کیا تھا؟**

**(viii) صورہ الارض کس فن کی کتاب ہے؟ مصنف کا نام بھی لکھیں**

**(ix) یورپ میں طب کی انجلیں کس کتاب کو کہتے ہیں، یہ کس کی تصنیف ہے؟**

**(x) قرآن مجید میں انسانی تخلیق کے کونے مراحل بیان کیے گئے ہیں؟**

**(xi) مسلمانوں کے ایجاد کردہ کوئی سے چار (۴) سائنسی آلات کے نام تحریر کریں**

**(xii) پاکستان میں قائم مین الاقوا ای معیار کے دو (۲) ہمپتا لوں کے نام تحریر کریں**

**(xiii) کوئی سے دو (۲) مستشرقین کے نام لکھیں، جنہوں نے مسلمانوں کی سائنسی خدمات کا اعتراف کیا ہو**

**(xiv) فولادسازی اور شیشہ سازی کی صنعت کن کن انبیاء سے منسوب ہے؟**

**(xv) درج ذیل کتب کے مصنفوں کے نام تحریر کریں**

**(i) طب العرب      (ii) Making of Humanity**

**(۱) سائنس سے کیا مراد ہے؟ سائنسی طریقہ کار کے مراحل مفصل بیان کریں، اپنا جواب قرآنی آیات سے بھی مزین کریں**

**(۲) توسعی کائنات اور اختتام کائنات کے قرآنی اور سائنسی نظریات کا جائزہ پیش کریں**

**(۳) علم بصریات کے امام ابن الهیثم کی سائنسی اور علمی خدمات پر نوٹ تحریر کریں**

**(۴) محمد بن زکریا الرازی کی سائنسی خدمات پر نوٹ تحریر کریں**

**(۵) قرون وسطی میں مسلمان مسلمان ماہرین نے فن تعمیر کو جدوں سے روشنash کرایا، دلائل سے ثابت کریں**

**(۶) علم فلکیات میں مسلم ماہرین فلکیات کی خدمات پر سیر حاصل بحث کریں**

**(۷) امت مسلمہ کے سائنسی پرمانندگی کے اسباب تحریر کریں، نیز احیاء کی عملی تجاویز بھی بیان کریں**

**(۸) درج ذیل میں سے دو (۲) پر مختصر نوٹ تحریر کریں**

**(i) ڈاکٹر عبدالسلام      (ii) عہد بن عباس کی سائنسی ترقی      (iii) ابن بیطار**



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies (Old Course)**  
**PAPER: I (Al Fiqah)**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

سوال: ا) درج ذیل میں سے سات سوالات کے مختصر جوابات اس طرح دیجئے کہ جزو الف اور ب دو دو اور جزو ج سے تین سوالات منتخب

کیجئے:

۱۳

الف:

۱) مطلق کی تعریف کیجئے، ایک مثال بھی دیجئے۔

۲) اشارہ انص سے کیا مراد ہے

۳) مجمل کی تعریف کیجئے

۴) اجماع کی تعریف کیجئے

ب:

۱) عہد صحابہ و ممتاز فقہاء کے اسماء گرامی تحریر کیجئے

۲) عہد بن امیہ کے دو قبیل ماذ لکھیجے

۳) عہد تابعین کے دو قبیل مدارس کے نام لکھیجے

۴) اجتہاد کی تعریف کیجئے

رج:

۱) نکاح کی اہمیت پر قرآن کریم کی ایک آیت نقل کیجئے

۲) صرف دنخوص الفاظ سے نکاح ہو سکتا، اس کے کونسے فقہاء قائل ہیں

۳) خطبہ علی الخطبہ سے کیا مراد ہے، اس ضمن میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہؓ کیا موقف ہے

۴) ولی کی اجازت ضروری ہونے کے کونسے فقہاء قائل ہیں

۵) طلاق سنی کا مفہوم بیان کیجئے

۶) خلع کا لغوی و اصطلاحی مفہوم بیان کیجئے

حصہ اول: (اس حصہ سے ایک سوال کا جواب مطلوب ہے)

سوال: ۱: خاص و عام کی تعریف کیجئے، اقسام بیان کیجئے، حکم بیان کیجئے، اور ہر ایک کو مثالوں سے واضح کیجئے۔

سوال: ۲: سنت کی تعریف کیجئے، اس کی جیت پر مدل بحث کیجئے۔

۱۴  
**(P.T.O.)**

حصہ دوم: (اس حصہ سے ایک سوال کا جواب مطلوب ہے)

سوال: ۲۳: قرآن کے فقہی اصول بیان کیجئے اور آیات کے ذریعہ مثالوں سے اپنی بات واضح کیجئے۔

سوال: ۵: عہد نبوي ﷺ و صحابہؓ کے فقہی امتیازات بیان کیجئے۔

حصہ سوم: (اس حصہ سے دوساروں کے جوابات مطلوب ہیں)

۲۵

سوال: ۲۴: درج ذیل فقہی عبارت کا ترجمہ کیجئے، تشریع کیجئے اور فقہی اختلاف کی وضاحت کیجئے

فاما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا؟ فقال الشافعى: يزوجها الجد ابو الا ب و الا ب فقط ، وقال مالك: لا يزوجها الا الأب فقط ، او من جعل الا ب له ذلك اذا عين الزوج الا ان يخاف عليها الضيعة والفساد ، وقال ابو

حنيفة: يزوج الصغيرة كل من له عليها ولادية من أب و قريب وغير ذلك ، ولها الخيار اذا بلغت

۲۵

سہل: ۷: درج ذیل فقہی عبارت کا ترجمہ کیجئے، تشریع کیجئے اور فقہی اختلاف کی وضاحت کیجئے:

والسبب الثاني معارضة هذا القياس فالمقتضى التحديد لمفهوم الأثر الذى لا يقتضى التحديد . اما القياس الذى يقتضى التحديد فهو كما قلنا انه عبادة والعبادات مؤقتة . وأما اثر الذى يقتضى مفهومه عدم التحديد فحديث

سہل بن سعد الساعدي المتفق على صحته.

سوال: ۸: درج ذیل فقہی عبارت کا ترجمہ کیجئے، تشریع کیجئے اور ایک مجلس میں تین طلاق کے بارہ میں فقہی اختلاف کی وضاحت کیجئے

۲۵ جمهور فقهاء الامصار على ان الطلاق بلفظ الثالث حكمه حكم الطلاقة الثالثة ، وقال اهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة ولا تشير المنفظ في ذلك وحجة هشواء ظاهر قوله تعالى ( الطلاق مرتان) الى قوله في الثالثة (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

۲۵

سوال: ۹: درج ذیل میں سے کسی دو پر نوٹ لکھیے:

ب: نکاح میں گواہی کی اہمیت

الف: نسبی محرم رشتے

د: کتاب الاقضیہ الباب الثالث کا خلاصہ

ج: خلع اور اس کے احکام



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

Part - II A/ 2015

Examination:-M.A./M.Sc.

Roll No. ....

TIME ALLOWED: 3 HRS

MAX. MARKS: 100

**Subject: Islamic Studies (Old Course 2014)**

**Paper: Islam and Modern Thoughts**

**نوت:** سوال نمبر 1 لازمی ہے۔ حصہ اول میں سے کوئی سے دو، حصہ دوم اور حصہ سوم میں سے ایک ایک سوال کا جواب تحریر کیجیے۔

**سوال نمبر ۱)** درج ذیل میں سے کوئی سے دس اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(۲۰)

۱۔ اسلامی معاشریات کی تعریف کیجیے۔ (کسی ایک مفکر کی)

۲۔ رائیز کی معاشریات کی تعریف کے مطابق معاشری مسئلہ کیونگر پیدا ہوتا ہے؟

۳۔ حلال اور حرام کی تعریف کیجیے۔

۴۔ کافلیت عامہ سے کیا مراد ہے؟

۵۔ نظام سرمایہ داری کی فکری بنیادیں کیا ہیں؟ (صرف نام لکھیے)

۶۔ ڈاکٹرنیجات اللہ صدیقی کی اسلامی معاشری موضوعات پر صرف دو کتب کے نام لکھیے۔

۷۔ علم سیاست کے مطالعہ کے فوائد کے چار نکات لکھیے (صرف نام)

۸۔ حاکمیت الہیہ سے کیا مراد ہے؟

۹۔ جدید سیاسی انکار میں سے کسی ایک کے چار نکات لکھیے۔ (صرف نام)

۱۰۔ اسلامی معاشرت کی چار خصوصیات لکھیے۔ (صرف نام)

۱۱۔ غیر اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ کے فرق کے دونکات لکھیے۔

۱۲۔ حسن اخلاق سے متعلق ایک آیت یا حدیث لکھیے۔

## حصہ اول

**سوال نمبر ۱)** (الف) دورِ جدید میں معاشریات کے مطالعہ کے فوائد تحریر کیجیے۔

(۱۰)

(ب) علم معاشریات کی اقسام پر نوٹ لکھیے۔

(۱۰)

**سوال نمبر ۲)** قرآن و حدیث اور عہد خلافیت راشدہ کے تعامل کی روشنی میں کافلیت عامہ کے اسلامی تصور کی وضاحت کیجیے۔

(۲۰)

**سوال نمبر ۳)** علم معاشریات کے ارتقاء میں قرآن و حدیث اور مسلم علماء و مفکرین کی خدمات کا احاطہ کیجیے۔

(۲۰)

**سوال نمبر ۴)** (الف) غیر سودی بکاری کیونکر ممکن ہے؟

(۱۰)

(ب) موجودہ اسلامی بکاری نظام کا تقيیدی جائزہ لیجیے۔

(۱۰)

## حصہ دوم

**سوال نمبر ۱)** (الف) جمہوریت اور آمریت کا مقابلہ کیجیے۔

(۱۰)

(ب) کیا موجودہ جمہوریت اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے؟ اگر نہیں تو آپ اس نظام میں کیا تبدیلیاں تجویز کرتے ہیں۔

(۱۰)

**سوال نمبر ۲)** (الف) اسلامی دستور کے اہم خدو خال بیان کیجیے۔

(۱۰)

(ب) ”پاکستان کا دستور ایک اسلامی دستور ہے“ بحث کیجیے۔

(۱۰)

## حصہ سوم

**سوال نمبر ۱)** ”اسلام دیگر مذاہب اور سیاسی نظاموں کے مقابلہ میں انسان کو زیادہ حقوق دیتا ہے۔“ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جائزہ پیش کیجیے۔ (۲۰)

(۲۰)

**سوال نمبر ۲)** (الف) حقوق نسوان کے جدید تصورات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ پیش کیجیے۔

(۱۰)

(ب) حقوق نسوان کا اسلامی ماذل پیش کیجیے۔

(۱۰)

# UNIVERSITY OF THE PUNJAB



**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies**  
**PAPER: IV (i) (Islam and Western Modern Thought)**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

پہلا سوال لازمی ہے۔ بقیہ میں کوئی سے چار سوالات کے جواب دیجیے۔

س۱) - دس سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔

۱۔ مغربی فکر کی تشكیل میں کافر ما کوئی سے دو اہم عنابر کا نام بتائیے۔

۲۔ یونان کے کوئی سے دو معروف فلسفیوں کے نام لکھیں۔

۳۔ تفیحات کے مصنف کون ہیں۔

۴۔ تہذیب اسلام کا تصور کس مغربی مفکر نے یا۔

۵۔ انگریزی زبان میں قرآن کے کسی غیر مسلم مترجم کا لکھیے۔

۶۔ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں سمجھی یورپ نے مسلمانوں کے ساتھ روایے میں کیا نمایاں تبدیلی الائیں۔

۷۔ جوزف شافت کی اہم تصنیف کون کی ہے۔

۸۔ یورپ کی فکری اور تعلیمی تشكیل و ارتقا میں کس قوم کا بہت اہم کردار ہے۔

۹۔ NGO کن الفاظ کا مخفف ہے۔

۱۰۔ کیا روش خیالی کا تصور اسلامی تعلیمات کے ساتھ مہم آبجیکٹ ہے؟

۱۱۔ وحدت اویان کے تصور کی اسلام ہتھیڈ کرتا ہے یا نہیں۔

۱۲۔ تہذیب مغرب کے رد میں علامہ قابض کا کوئی ایک شعر لکھیں۔

۱۳۔ رینیسانس (Renaissance) کی تحریک سے کیا مراد ہے۔

۱۴۔ مغرب کی فکری روکرنا وائے کوئی سے دو عرب مصلحین کے نام بتائیں۔

۱۵۔ Humanism کی پیشتری تعریف کریں۔

س۱) استراتیجی فکر کا جامع تعارف پیش کریں۔ نیز تحریک استراتیجی ارتقاء کا جائزہ لے جیے۔

س۲) مطالعہ قرآن میں مستشرقین کی علمی نسبی اور ان کے اور دکڑہ اعتماد اضافات کا مدلل جائزہ پیش کریں۔

س۳) رسول کریمؐ حیات مبارکہ مستشرقین کی تحقیق کا خصوصی موضوع رہی ہے۔ تاریخی تھائیں کی روشنی میں مفصل تذکرہ تحریر کریں۔

س۴) جہاد اور قیال میں فرق بیان کرتے ہوئے اہل مغرب کی پیدا کردہ، ابھننوں اور خدشات کا رد کریں۔

س۵) قرون وسطی میں مسلمانوں کے درخواش علمی و سائنسی کارناموں، غربی تاریخ و اسناد اور مغلکریں کس نظرت دیکھتے ہیں۔ بحث کیجیے۔

س۶) مغربی مغلکریں حقوق انسوان کے حوالے سے مسلمانوں پر کیا اعتداء اضافات اور کرتے ہیں۔ ان کے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہوئے اسلام کے دینیت کردہ فطری اصولوں کا جائزہ لے جیے۔

س۷) مغربی انداز فکر کا مسلمانوں کے علمی و مذہبی رہنمائی پر اس حدیث اثر انداز ہوتا رہا ہے۔ مدلل آنٹاؤ کیجیے۔

س۸) کوئی سے دواجزا کے جواب مطلوب ہیں:

۱۔ تحریک الحاد و حریت اور مغرب پر اثرات

۲۔ مکالمہ میں المذاہب

۳۔ علامہ اقبال اور طالع تہذیب غرب



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies**  
**PAPER: IV (ii) [Islami Ikhlaq aur Tassawuf]**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

نوت: پہلا سوال لازمی ہے، اس کے علاوہ حصہ اول اور حصہ دوم سے دو دو سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

سوال: اکوئی سے دس اجزاء کے مختصر جواب تحریر کیجئے:

سوال ۱: اخلاق کے نفظی معانی کیا ہیں؟

سوال ۲: حسد کی نہت میں ایک حدیث درج کریں

سوال ۳: علم لدنی سے کیا مراد ہے؟

سوال ۴: وحی کی تین اقسام تحریر کریں

سوال ۵: خواطر سے متعلق دو حادیث درج کریں

سوال ۶: مکافہ سے کیا مراد ہے؟

سوال ۷: امام ابوالقاسم قشیری کے تین معاصرین کا نام تحریر کریں

## حصہ اول

۱۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی کے اخلاق پہلوؤں کو کیسے متاثر کرتا ہے وضاحت کریں۔

۲۔ اسلام کا تصور اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں۔

۳۔ نصیر الدین طوقی کے اخلاقی نظریات کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔

۴۔ عائل زندگی کے اخلاقی خوابط کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

## حصہ دوم

۵۔ اسلام میں بیعت کا کیا تصور ہے۔ بیعت کن کن امور پر لی جاسکتی ہے؟

۶۔ تصوف کے میدان میں مجدد الف ثانی کی کیا خدمات ہیں۔

۷۔ کرامت و مجزہ میں کیا فرق ہے۔

۸۔ تزکیہ نفس میں تصوف سے کیا ہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies (Old & New Course, Old Course 2014)**  
**PAPER: IV (iii) & III-3 [The World of Islam, Resources & Problems]**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

نوت: کل پانچ سوالوں کے جوابات دیں۔ پہلا سوال لازمی ہے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر چیز۔

۱۔ کوئی سے دس اجزاء کے جواب دیں۔

(i) ترکی اور ملائیشیا کی کامن نام تباہی۔

(ii) آبادی کے اعتبار سے مسلم دنیا کے سب سے بڑے ملک کا نام بتائیں یہ کس خط میں واقع ہے؟

(iii) E.C.O کن الفاظ کا مخفف ہے؟

(iv) مندرجہ ذیل کتب کے مصنفوں کا نام تباہی

الف) اجہاد فی الاسلام      ب) اسلام اور جدید مادی انکار

(v) لیبیا کے دوہماں ممالک کے نام لکھیں۔

(vi) جامعہ زیونہ کس اسلامی ملک میں واقع ہے؟

(vii) موری کن مسلمانوں کو کہا جاتا ہے۔

(viii) عرب لیگ کب قائم ہوئی؟

(ix) ملائیشیا کے دار الخلافہ کا نام لکھیں۔

(x) براعظم یورپ میں واقع دو اسلامی ممالک کے نام لکھیں۔

(xi) پاکستان و حضوں میں کب تقسم ہوا۔

(xii) عالم اسلام کی دو زرخیز وادیوں کا نام لکھیں۔

(xiii) سینی گال میں کب اور کوئی سربراہ کا نفرس ہوئی؟

(xiv) ریکوڈ کامنامہ کس اسلامی ملک میں واقع ہے؟

(xv) موساد کس ملک کی خفیہ ایجنسی کا نام ہے۔

۲۔ عالم اسلام کے صنعتی وسائل تفصیلیاً بیان کریں۔

۳۔ نیوورلڈ آرڈر سے کیا مراد ہے؟ اس کے پس پرده عوام اور عالم اسلام پر اس کے اثرات بیان کریں۔

۴۔ مسئلہ کشیر کا تاریخی پس منظر اور اس کے حل کے لیے عالمی اداروں کی اب تک کی کاوشوں اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں۔

۵۔ اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی یلغار اور لادینی نظریات کے فکر اسلامی سے تصادم پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔

۶۔ OIC عالم اسلام کی واحد سیاسی تنظیم ہے۔ اس کے کروار کا تقدیمی جائزہ لیجئے۔

۷۔ ”عالم اسلام کے مسائل کے حل کے لیے جامع تجوید دیں۔

۸۔ گلوبل و پیچ میں عالم اسلام کی معاشی اہمیت پر مفصل تبصرہ کریں۔

۹۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی دو پر نوٹ لکھیں۔

ب) عالم اسلام کے افرادی وسائل

الف) جسٹس اینڈ ڈیپنٹ پارٹی

د) مؤتمر عالم اسلامی

ج) مسئلہ یمن



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies**  
**PAPER: V (iii) (Topical Study of Quran)**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**  
**MAX. MARKS: 100**

**نوٹ:** پہلا سوال لازمی ہے۔ باقی میں سے کوئی سے چار سوالات حل کریں۔ تمام سوالات کے نمبر یکساں ہیں۔

**سوال نمبر ۱:** کوئی سے پانچ اجزاء کے جواب مطلوب ہیں۔

(20) ۱: ”الفوز الکبیر“ کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کریں۔

۲: اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟

۳: قرآن کریم میں ذکر کیے گئے چند قصص کے نام تحریر کریں۔

۴: ”منازل العرقان فی علوم القرآن“ کے مصنف کا نام تحریر کریں۔

۵: تفسیر ماجدی کی دو خصوصیات تحریر کریں۔

۶: ”تبیان القرآن“ اور ”تفسیر القرآن“ کے مصنفین کے نام تحریر کریں۔

۷: ”تفہیم القرآن“ کا منبع و اسلوب تحریر کریں۔

**سوال نمبر ۲:** قرآن مجید میں اہل بحث کو ملنے والے انعامات پر جامع نوٹ تحریر کریں۔

(20) **سوال نمبر ۳:** ”مججزات“ کے بارے میں مجددین کے نقطہ نگاہ کا جائزہ پیش کرتے ہوئے علماء امت کے نظریہ کو تحریر کریں۔

(20) **سوال نمبر ۴:** قرآن کریم نے غرباء و مستضعفین سے کیا خطاب کیا ہے اور ان غرباء نے کیسے اپنے نبی کی اطاعت کی؟ مفصلہ تحریر فرمائیں۔

(20) **سوال نمبر ۵:** اہل باطل کے حربوں اور طرزِ عمل کے مقابلے میں اہل حق کو جو ہدایات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، وہ بیان کریں اور اہل حق کے غالب آنے کی جو شرائط ذکر کی ہیں ان پر بحث کریں۔

(20) **سوال نمبر ۶:** ”إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأُفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُهُ شَرَّ الْكُفَّارِ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ“ کی روشنی میں واقعہ افک پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے آیت مبارکہ میں بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ کی مراد واضح کریں؟

(20) **سوال نمبر ۷:** سورہ کھف میں ذکر کیے گئے حضرت موسیٰ اور حضرت علیہ السلام کا واقعہ تحریر کریں، اور اس واقعے سے اخذ ہونے والی نصائح کا جائزہ پیش کریں۔

# UNIVERSITY OF THE PUNJAB



**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies**

**PAPER: V (iii), V (vi) [Islam and Modern Western Thought]**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**

**MAX. MARKS: 100**

پہلا سوال لازمی ہے۔ بقیہ میں کوئی سے چار سوالات کے جواب دیجیے۔  
 س ۱) دس سوالوں کے مختصر جواب دیجیے۔

- ۱۔ اسلام اور مغرب کی شخصیت کس مشہور یورپی مسلمان کی کتاب کا ترجمہ ہے۔
- ۲۔ تمہدی تصادم کا تصور کس مغربی مفکرے نے دیا۔
- ۳۔ ایڈورڈ سعید کی معروف کتاب کا نام بتائیے۔
- ۴۔ انگریزی زبان میں قرآن کے کسی غیر مسلم مترجم کا نام لکھیے۔
- ۵۔ قرآن پر اعتراض کرنے والے کوئی سے دو مستشرقین کے نام بتائیں۔
- ۶۔ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں سیکھ یورپ نے مسلمانوں کے ساتھ رویے میں کیا نمایاں تبدیلی لا گئی۔
- ۷۔ حدیث پر مستشرقین کے کوئی سے دو اعتراضات بتائیں۔
- ۸۔ مغربی فکری یلغار کا علمی مقابلہ کرنے والے بر صغیر کے کوئی سے دو مسلمان اہل علم کا نام بتائیں۔
- ۹۔ نبود لہ آڑ سے کیا مراد ہے۔
- ۱۰۔ WTO کن الفاظ کا مخفف ہے۔
- ۱۱۔ تمہدیب مغرب کے ردمیں علامہ اقبال کا کوئی ایک شعر لکھیں۔
- ۱۲۔ تحریک اصلاح نہب (Reformation) کے بانی کون تھے۔
- ۱۳۔ بر صغیر سے تعلق رکھنے والے مغربی فکر و تدنی کا محاکمہ کرنے والے کوئی سے دو مصلحین کا نام لکھیں۔

س ۲) مغربی اہل علم نے تحریک استراق کا نام لے کر اسلام کا تعارف کس انداز سے پیش کیا ہے۔ نیز مختلف ادوار میں مستشرقین کی حکمت عملی میں کیا نمایاں تبدیلیاں روشن ہوئیں۔

س ۳) علم حدیث کے حوالے سے مستشرقین کا خاص مطالعہ کیا ہے۔ دلائل کی روشنی میں جائزہ لیجیے۔

س ۴) جہاد اور قیال میں فرق بیان کرتے ہوئے اہل مغرب کی پیدا کردہ بھنوں اور خدشات کا رد کریں۔

س ۵) قرون وسطی میں مسلمانوں کے درخشاں علمی و سائنسی کارناٹوں کو مغربی تاریخ دان اور مفکرین کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بحث پیچھے۔

س ۶) اسلام میں عورت کے مقام و مرتبہ کے متعلق اہل مغرب کا روایہ کیا ہے۔ تحقیقی مطالعہ پیش کریں۔

س ۷) مسلمانوں میں تجدی و پسندی کے رجحانات کس وجہات کا نتیجہ ہے۔

س ۸) مکالمہ بن امداد اہب ہندی دنیا میں بننے والے مختلف مذاہب میں قربت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی تائید یا مخالفت میں اپنی رائے دلائل کی روشنی میں پیش کیجیے۔

س ۹) ۱۔ علماء بر صغیر پر فکر مغرب کے اثرات

۲۔ سیکولر ازم

۳۔ تحریک ماوریت اور اس کے اثرات

۴۔ توپیں رسالت مقاصد اور مفادوں



# UNIVERSITY OF THE PUNJAB

**Part-II      A/2015**  
**Examination:- M.A./M.Sc.**

.....  
 Roll No. ....

**Subject: Islamic Studies (Old & New Course)**

**PAPER: V (i) [Islam and Modern Political and Social Thoughts]**

**TIME ALLOWED: 3 hrs.**

**MAX. MARKS: 100**

نوت: پانچ سوالوں کے جواب مطلوب ہیں۔ پہلا سوال لازمی ہے۔ حصہ اول اور حصہ دوم میں سے دو، دو سوال منتخب کریں۔

(۲۰)

سوال: درج ذیل میں سے دس اجزاء کے مختصر جواب لکھیں۔

۱)۔ تصور خلافت کے بارے میں قرآنی آیت کا متن تحریر کریں۔

۲)۔ اشتراکیت سے کیا مراد ہے؟

۳)۔ کتاب الخراج اور احکام السلطانیہ کے مصنفوں کے نام لکھیں۔

۴)۔ عالم اسلام کی ووقدیم درسگاہوں کے نام تحریر کریں۔

۵)۔ سیاسی علوم کے ماہر و مغربی مفکرین کے نام لکھیے۔

۶)۔ نیشنلزم کے کہتے ہیں؟

۷)۔ تہذیب اور ثقافت کے معانی واضح کیجیے۔

۸)۔ بنیادی انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟

۹)۔ انسانی مساوات سے متعلق ایک حدیث مبارکہ کا متن لکھیں۔

۱۰)۔ ریاست کے بنیادی فرائض کیا ہیں؟

۱۱)۔ بچوں سے جری مشقت لینے کے واقعہ نات تحریر کریں۔

۱۲)۔ عورتوں کے حقوق سے متعلق قرآنی آیت لکھیں۔

( حصہ اول )

سوال: ۱)۔ اسلامی ریاست کی امتیازی خصوصیات واضح کریں۔

سوال: ۲)۔ واضح کیجیے کہ اسلامی دستور کے مأخذ کیا ہوتے ہیں؟

سوال: ۳)۔ قومیت کے مغربی تصور کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تجزیہ کریں۔

سوال: ۴)۔ ذیل کے کوئی سے دو اجزاء پر نوٹ لکھیں:

ا۔ حقوق العباد    ب۔ فلاجی معاشرہ    ج۔ جمہوریت

( حصہ دوم )

سوال: ۵)۔ فرد کی تربیت میں خاندان کے کردار تفصیلی نوٹ لکھیں۔

سوال: ۶)۔ بنیادی انسانی حقوق کے مغربی تصور کا موازنہ اسلام کے عطا کردہ حقوق انسانی کے ساتھ کیجیے۔

سوال: ۷)۔ پاکستان کے معاشرتی مسائل کا تذکرہ کیجیے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا حل تجویز کیجیے۔ (۲۰)

سوال: ۸)۔ ذیل کے عنوانات میں سے دو پر نوٹ لکھیں:

ا۔ ریاست کا معاشرتی کردار    ب۔ سماجی انتشار اور اس کا علاج    ج۔ قومیت